

# Maulana Azad National Urdu University

## Ph.D. 1st Semester (Botany) Course Work Examination, April - 2021

### PHBY102DST : Stress Physiology

پرچہ :

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔  $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔  $(5 \times 6 = 30 \text{ Marks})$

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔  $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

### حصہ اول

سوال : 1

حسب ذیل میں سے کوئی Global Warming کیس میں ہے۔ (i)

O<sub>2</sub> (d) (Water Vapour) (c) آبی بخارات (Methane) (b) CO<sub>2</sub> (a)

حسب ذیل میں سے کوسمارکت (Compounds) پودوں کے Stress کے رد عمل (Response) میں برآ راست ملوث نہیں ہے۔ (ii)

Iasmonic Acid (IA) (b) Abscisic Acid (ABA) (a)

Ethylene (d) Citric Acid (c)

جینیاتی (Genetically) طور پر نمک کے ماہول میں روادار (Adapted) پودے کھلاتے ہیں (iii)

Gycophytes (d) Hygraophytes (c) Halophytes (b) Heliophytes (a)

پودوں کا Osmoprotectant \_\_\_\_\_ نہیں ہے۔ (iv)

Mannitol (d) Threonine (c) Proline (b) Glycine Betain (a)

جڑوں میں پانی کی نقل و حرکت (Movement) کا Symplastic راستہ \_\_\_\_\_ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ (v)

(a) سیل وال (Cellwall) (b) اینٹر سیلولر خالی جگہیں (Intercellular Spaces) (c) پلازمائیٹی (Plasmodesmata) (d) پلازمائیٹن (Plasma Membrane)

ROS میں اضافے کی وجہ سے پودوں میں \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔ (vi)

(a) دباؤ (Chilling) (d) دباؤ (Heat) (b) دباؤ (Oxidative) (c) دباؤ (Oxought)

|   |        |
|---|--------|
| سیل جھلی (Polar Water) میں پروٹین چینز (Protein Channels) ہیں جو قطبی پانی (Plasma Membrane) کے اندر سے گزرنے دیتے ہیں۔ | (vii)  |
| کوبطرا نخاب (Selectively Molecules) کے لیے Solution کے لیے Positive Osmotic Pressure ہمیشہ ہوتا ہے۔                     | (viii) |
| (a) صحیح (True) (b) غلط (False)   |        |
| سیل (Cell) کے پلامولیس (Plasmolysis) سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔  | (ix)   |
| کس غیر حیاتی (Abiotic) دباؤ (Stress) کی وجہ سے HSPs حرکت میں آتے ہیں۔   | (x)    |

## حصہ دوم

|  |    |
|--|----|
| ماحولیات کے حیاتیاتی (Biotic) اور غیر حیاتیاتی (Abiotic) عوامل (Factors) کی وضاحت کیجیے۔                     | .2 |
| مختصر آطور پر سیل جھلی (Cell Membrane) کی ساخت اور عمل (Function) کی وضاحت کیجیے۔                            | .3 |
| مختصر آنوٹ لکھیے۔  | .4 |
| Water Potential ( $\psi_w$ ) کا Solution (b) DPD (a)   |    |
| پودوں میں Salinity دباؤ کے اثر کے بارے میں لکھیے۔  | .5 |
| Osmotic Adjustment سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختصر آبیان کیجیے۔  | .6 |
| غیر حیاتیاتی دباؤ (Abiotic Stress) کے خلاف فصل رواداری (Crop Tolerance) کے بارے میں واضح طور پر وضاحت کیجیے۔ | .7 |
| پودوں میں SOS Signalling پر ایک نوٹ لکھیے۔   | .8 |
| پودوں کے شکلیاتی (Morphological) اور فعلیاتی (Physiological) خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔             | .9 |

## حصہ سوم

|   |     |
|---|-----|
| گلوبل وارمنگ (Global Warming) سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پودوں پر انہائی درجہ حرارت کے اثرات کی وضاحت کیجیے۔ | .10 |
| پودوں میں مختلف قسم کے Transpiration کے بارے میں لکھیے۔ پراڑا لانے والے عوامل (Factors) کی وضاحت کیجیے۔ | .11 |
| پودوں میں پانی کے Uptake اور Transport کے عمل کی وضاحت کیجیے۔   | .12 |
| پودوں میں Aluminium Toxicity کو مختصر آسمجھائیے۔  | .13 |
| پودوں پر خشک سالی کے دباؤ (Drought Stress) کے اثرات کی تفصیل سے وضاحت کیجیے۔                            | .14 |